



4920CH04

غزل

غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا میری طرف بھی غمزہ نماز دیکھنا
اُڑتے ہی رنگِ رخِ مرا نظروں سے تھانہاں اس مُرغ پر شکستہ کی پرواز دیکھنا
دُشنامِ یار طبعِ حزیں پر گراں نہیں اے ہم نفسِ نزاکتِ آواز دیکھنا
دیکھ اپنا حالِ زار منجم ہوا رقیب تھا سازگار، طالعِ ناساز دیکھنا
کُشتہ ہوں اس کی چشمِ فسوں گر کا اے مسیح کرنا سمجھ کے دعویٰ اعجاز دیکھنا
ترکِ صنم بھی کم نہیں سوزِ جیم سے
مومن غمِ مال کا آغاز دیکھنا

مومن خاں مومن

سوالوں کے جواب لکھیے

1. شاعر کو کس راز کے کھل جانے کا خوف ہے؟
2. رنگِ رخ اُڑنے کا اشارہ کس طرف ہے اور شاعر پر شکستہ کس کو کہہ رہا ہے؟
3. 'طبعِ حزیں پر دُشنامِ یار' گراں کیوں نہیں ہے؟
4. غزل کے کس شعر میں تلمیح کا استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟